

Meeting of Inter-Ministerial Coordination Group on Neighbouring Countries

April 12, 2022

پڑوسی ممالک سے متعلق بین وزارتی رابطہ گروپ کا اجلاس

12 اپریل، 2022

سکرٹری سطح پر بین وزارتی رابطہ گروپ کی پہلی میٹنگ آج خارجہ سکرٹری جناب ہرش وردھن شرنگلا نے طلب کی تھی۔ آئی ایم سی جی کو وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے وژن کے مطابق، ہندوستان کی 'پڑوسی پہلے' پالیسی کو مرکزی دھارے میں لانے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی طریقہ کار کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔

2- داخلہ، تجارت، خزانہ، ماہی پروری کی وزارتوں/ محکموں کے سیکرٹریز، وزارتوں/ محکموں دفاع، ریلوے، اقتصادی امور، امور صارفین، زراعت اور کسانوں کی بہبود، اطلاعات و نشریات اور کینیٹ سیکرٹریٹ، نیشنل سیکورٹی کونسل سیکرٹریٹ کے نمائندوں نے آج کے اجلاس میں بارڈر گارڈنگ فورسز کے سربراہان کے ساتھ دیگر متعلقہ اداروں نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ میں افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیپ، میانمار، نیپال، پاکستان اور سری لنکا کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سرحدی انفراسٹرکچر، امیگریشن، ترقیاتی تعاون بارڈر سیکورٹی وغیرہ کے شعبوں میں ہندوستان کے باہمی تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا اور اہم فیصلے لیے گئے۔

3- آئی ایم سی جی کو وزارت خارجہ میں متعلقہ جوائنٹ سکرٹریوں کے ذریعے بلائی جانے والی بین وزارتی مشترکہ ٹاسک فورسز کی مدد حاصل ہے۔ انڈیا کی نیبر ہڈ فرسٹ پالیسی کے تحت زیادہ سے زیادہ کنیکٹیویٹی، مضبوط باہمی روابط اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے لوگوں کے رابطے جیسے فوائد کی فراہمی کے لیے حکومت ہند کی کوششیں حکومت کی مختلف وزارتوں، اور متعلقہ ریاستی حکومتوں محکموں اور ایجنسیوں کے تعاون کے ساتھ مکمل حکومتی نقطہ نظر کے ذریعے طے پاتی ہیں۔ آئی ایم سی جی حکومت بھر میں ادارہ جاتی تال میل کو مزید بہتر بنائے گا اور اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کے بارے میں حکومت کے اس پورے نقطہ نظر کو جامع سمت فراہم کرے گا۔

نی دہلی

12 اپریل، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.